

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 کے دوران بلیک ہسٹری منتھ ورچوئل منا رہا ہے

برامپٹن، آن (1 فروری 2021) – فروری کے مہینے کے دوران، سٹی آف برامپٹن اپنی سیاہ فام کمیونٹی کی شہر، صوبے اور ملک کے لیے بے شمار ثقافتی، معاشی اور ہمدردانہ خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے بلیک ہسٹری منتھ مناتا ہے۔

کمیونٹی میں ایسے افراد کو اعزاز پیش کرنے کے لیے، جو حمایتی، نمائندے اور جدت کار ہیں، لوگ رہائشیوں کو میئر پیٹرک براؤنز میکنگ بلیک ہسٹری ایوارڈز کے لیے نامزد کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے، www.brampton.ca/BHM2021 ملاحظہ کریں۔

کووڈ-19 کی وجہ سے، اس سال سرگرمیوں اور تقریبات کی میزبانی آن لائن کی جائے گی۔ پروگراموں میں شامل ہیں:

- سن لائف فائینیشنل پیش کرتا ہے ورچوئل پرفارمنس سیریز، جو مقامی سیاہ فام فنکاروں کی جانب سے ہفتہ وار پیشکشوں کا ایک تسلسل ہے
- بلیک میکرز مارکیٹ، جس میں سیاہ فام افراد کے ملکیتی کاروبار موجود ہیں
- مقامی یوگا انسٹرکٹر، میتھیو بوناس کی میزبانی میں ویلنٹس اور
- از الیا ہارٹ کی میزبانی میں بیسٹ اینڈ بلیک ان برامپٹن فوڈ ٹوئر
- اس عالمی وباء کے دوران تخلیقی رہنے، اپنے کریئر میں چلنے، بلیک لائیو میٹر اور مضبوط سیاہ فام قیادت جیسے موضوعات پر برامپٹن کی جونز اینڈ جونز پروڈکشنز کی نگرانی میں پینل کی گفتگو

ہونے والی تمام سرگرمیوں اور تقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے، www.brampton.ca/BHM2021 ملاحظہ کریں۔

بلیک پولیٹیکل امپاورمنٹ کانفرنس

9 اور 10 فروری کو یہ بلیک پولیٹیکل امپاورمنٹ کانفرنس سیاہ فام سیاسی رہنماؤں اور اتحادیوں کے ساتھ معلوماتی اور ترغیب کن گفتگو پیش کرے گی۔ ان گفتگوؤں کی توجہ کا مرکز نظام میں موجود نسل پرستی، سماجی، تعلیمی اور کاروباری عدم مساوات کے خاتمے کے لیے سیاہ فام افراد کی سیاسی طاقت بنانے کی انتہائی اہمیت، مگر سب سے اہم، لوگوں، خاندانوں اور نوجوانوں کو سیاست میں شامل ہونے کی ترغیب دینا ہو گا۔ رجسٹر ہونے کے لیے www.brampton.ca/BHM2021 پر کلک کریں۔

بلیک یوتھ لیڈرشپ کانفرنس

ہمارے شہر میں نوجوان لوگوں کو کامیابی کے لیے تیار ہونے کے لیے بڑے مسائل پر قابو پانا ہے اور بہت کام کرنا ہے۔ 26 فروری کو صبح 9 سے دن 3:30 تک چلنے والی یہ تقریب نوجوان لوگوں کو بات چیت کرنے اور اپنے مسائل، خدشات اور خواب شیئر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گی۔ یہ کانفرنس ان کے کچھ مسائل کے حل تلاش کرنے پر مرکوز ہو گی اور ان کی کامیابیوں میں مدد دینے کے طریقے تلاش کرنے میں مدد دینے کے لیے گفتگو میں حصہ لے گی۔ نوجوان لوگوں کو بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم دینے کے علاوہ، اس کانفرنس سے پیشہ ورانہ اور ترغیبی مقررین بھی مخاطب ہوں گے۔ یہ کانفرنس نوجوانوں اور اسکول بورڈز کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ شرکت کرنے کے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ کرم economicantiblackracism@brampton.ca پر رابطہ کریں۔

اقتباسات

"برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی نے اس ملک کو یہ ثقافتی طور پر متنوع، ہمدرد اور خوشحال قوم بنانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جو یہ آج ہے۔ ہمیں پورے مہینے پر پھیلی ان تقریبات کی پیشکش کرنے پر فخر ہے، جو بلیک ہسٹری منتھ کا اعتراف کرتی اور مناتی ہیں۔ منصوبہ شدہ اہم مباحثوں اور سرگرمیوں میں حصہ لے کر، ہم اپنی کمیونٹی میں سیاہ فام کمیونٹی کے اراکین کے اہم کردار کو نمایاں کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک زیادہ مشمول شہر بنا رہے ہیں۔"

– پیٹرک براؤنز، میئر، سٹی آف برامپٹن

"پورے شہر میں پھیلی سیاہ فام افریقی اور کیرییبین کمیونٹیز برامپٹن کے متنوع ثقافتی موسوی اور ہماری مقامی معیشت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ برامپٹن سٹی کونسل میں منتخب ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون کے طور پر، مجھے بامعنی طور پر بلیک ہسٹری منتھ کو منانے میں کونسل کے ساتھیوں اور عملے کے ساتھ مل کر رہنمائی کرنے پر فخر ہے۔ ایک ساتھ مل کر، ہم برامپٹن کی ماضی اور حال کی کہانی میں کمیونٹی کے اراکین کی ان کئی خدمات کو سراہتے ہیں، جو کمیونٹی رہنماؤں کی اگلی نسل کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں۔"

– شارمین ولیمز، سٹی کونسلر، وارڈز 7 اور 8، سٹی آف برامپٹن

برامپٹن نگینوں سے جڑا ہوا ہے اور بلیک ہسٹری منتخب کو تسلیم کر کے اور منا کے ہم سٹی کے تنوع کو پہچان رہے ہیں۔ سیاہ فام افراد کی تاریخ دنیا کی تاریخ ہے۔ یہ ایک طاقتور اور بھرپور تاریخ ہے، جس کی بنیاد کامیابی، جدت، ثقافت اور انسانیت میں موجود ہے۔ اس مہینے میں، ہم ان کہانیوں اور ہم سے پہلے آنے والوں کی میراث پر سوچنے اور اس سے ترغیب حاصل کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمیں ایک مزید مساوی، منصفانہ اور مشمول ملک بنانے میں مدد دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اتحاد، احترام اور لگن کا زیادہ احساس دے گا۔"

– گونیتھ چیپ مین، سینیئر ایڈوائزر، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم، سٹی آف برامپٹن

"اس سال بلیک ہسٹری منٹھ کی تقریبات فخریہ طور پر برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی اور ہمارے شہر کی ثقافتی موسوی میں اس کے بڑے کردار کو تسلیم کرتی اور مناتی ہیں۔ پورے مہینے کے لیے منصوبہ شدہ ورچوئل تقریبات اور سرگرمیاں پورے شہر میں متنوع گروہوں سے بات کرنے، ثقافتی تقریبات کی معاونت کرنے اور ہماری متنوع سیاہ فام کمیونٹی کے بارے میں مزید جاننے کا ایک موقع ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ پورا مہینہ وسیع اقسام کی ان تقریبات میں حصہ لیں۔"

– ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca